

حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

پھر ایک روایت میں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (الحدیث)

رویت دیگر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور سبیل وہ روزہ ہے کہ جس روز کعبہ اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب فرضیتِ رمضان کا نزول ہوا تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور جو چاہے نہ رکھے تو وہ ترک کر سکتا ہے۔

عاشرہ کے روزہ کا ترک کرنا:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی ہیں کہ زمانہ جامیت میں عاشورہ کے روز قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے اس کے روزہ کا حکم فرمایا۔ پھر جب فرضیتِ رمضان کا حکم ہوا تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی نبی دان (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

قریش کا ایام جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھنا:

ایک روایت ہے کہ قریش ایام جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا جو روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات بخاری و مسلم نے دی ہیں اور امام مالک اور ابو داؤد اور امام ترمذی نے چوتھی روایت لقل کی ہے۔

یوم عاشورہ ایام اللہ ہونا:

حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ بروز عاشورہ روزہ رکھتے تھے اور رمضان کے فرض ہونے سے قبل نبی پیار صاحب لاوک (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور باقی تمام اہل اسلام نے بھی۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ یوم عاشورہ ایام اللہ ہے لہذا جو چاہے روزہ رکھے۔

ایک اور روایت میں منقول ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمتِ القدس میں عاشورہ کا تذکرہ کیا گیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا یہ وہ یوم ہے کہ جس یوم میں جہالت کے دور میں روزہ رکھا جاتا تھا اور اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے اس کی توضیح بخاری و مسلم نے کی۔ اور بخاری سے مروی ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا پھر فرضیتِ رمضان پر آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔

اور مسلم نے دوسری روایت کی میلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو تم میں سے روزہ رکھنا پسند کرے وہ رکھے اور جو ناپسند کرے وہ ترک کرے۔ ابو داؤد نے پہلی روایت کی طرح ذکر کیا۔

یوم عاشورہ بطور عید منایا جاتا تھا:

حضرت ابو موسی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ یہود یوم عاشورہ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس روز کو بطور عید مناتے تھے تب محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔

ایک روایت میں ہے کہ اہل خبر برلن عاشورہ روزہ رکھتے اور عید مناتے تھے۔ اور اپنی عورتوں کو اس روز کپڑے اور زیورات سے آراستہ کرتے تھے۔ تب حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی۔

یوم عاشورہ یوم نجات ہے:

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہود کو دیکھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت بہتر دن ہے اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسی (علیہ السلام) اور نبی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تو انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تم سے بڑھ کر ہم حضرت موسی (علیہ السلام) کو مانے والے ہیں۔ پھر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔

یوم عاشورہ فرعون کی ملاکت کا یوم ہے :

ایک اور روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا یہ کون سادن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے بطور شکرانہ روزہ رکھا ہم اس کی عظمت میں روزہ رکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی اور ابو داؤد نے دوسری روایت لکالی۔

یوم عاشورہ کی طرف رغبت دلانا:

حضرت جابر بن سرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے اور اس کی طرف راغب بھی کرتے اور اس کا عہد بھی کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کی فرضیت کا نزول ہوا تب آپ نے ہمیں اس کا نہیں حکم دیا اور نہیں منع کیا اور نہیں عہد لیا۔ مسلم نے اس کی تخریج کی۔

فرضیت رمضان کے بعد یوم عاشورہ کی اہمیت :

حضرت علقم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ اشعث بن قیس حضرت عبد اللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس آئے اور وہ ہر روز یہ عاشورہ کھانا تناول فرماتے تھے اور کہا اے ابو عبد الرحمن یہ تو یوم عاشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ رمضان کے فرض ہونے سے قبل روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر جب ماہ رمضان فرض ہوا تو اسے ترک کر دیا گیا۔ لہذا اگر تم روزہ سے نہیں ہوتا کھانا تناول فرماؤ۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔

یوم عاشورہ کیا ہے؟

حضرت سلمہ بن اکوع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضور نبی غیب دان (علیہ السلام) نے ایک اسلامی مرد کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے کہ جس نے سحری کھائی ہے وہ باقی دن کا روزہ بھی رکھے اور جس نے نہیں کھائی وہ بھی روزہ رکھے کیونکہ یہ ہر روز یہ عاشورہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک اسلامی مرد سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو خبردار کر دیا یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو خبر دو۔ شک راوی ہے۔ اس کی تخریج بخاری و مسلم اور نسائی نے کی ہے۔ اور حضرت عبدالرحمٰن بن سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے اسی کی مثل ابو داؤد نے تخریج کی ہے۔

بچوں کو کھلونا دینا:

حضرت رائیت حضرت معوذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے عاشورہ کی بُجُر کو مدینہ منورہ کے ارد گرد کے انصاریوں کے دیپھاتوں میں اطلاع بھجوادی کہ جو شخص روزہ سے ہو وہ اپناروزہ پورا کرے اور جو روزہ دار نہ ہو وہ تمام دن روزہ داروں کی مثل گزارے پھر اس کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور انہم مسجد میں چلے جاتے اور ان بچوں کے لیے ہم اون کے کھلونے بنا دیتے جو بچہ کھانے کی خواہش میں روتا ہم اسے کھلونا پیش کرتے یہاں تک کہ روزہ بچوں نے کا وقت ہو جاتا۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی اور ایک دوسری روایت بھی اسی جیسی ہے۔

عاشورہ کا روزہ اور فطرہ کی صدقہ کی ادائیگی:

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور فطرہ کا صدقہ ادا کرتے۔ پھر جب رمضان فرض ہوا اور زکوٰۃ کا حکم آیا تو پھر ہمیں نہ تو اس کا حکم دیا گیا اور نہیں اس سے روکا گیا ہم اسی طرح کرتے رہے۔ نسائی نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے یوم عاشورہ میں پوچھا کہ تم میں سے کسی نے آج کچھ کھایا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! انہم میں سے کچھ توروزہ سے ہیں اور کچھ روزہ سے نہیں ہیں۔ فرمایا تم تمام کے تمام باقی دن کو پورا کرو اور ارد گرد کے لوگوں کو خبر دے دو کہ وہ اپنی باقی دن یونہی پورا کریں۔

حضرت امام مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ شخص یہ روایت پہنچی کہ حضرت عمر بن الخطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے حارث بن ہشام کو اطلاع کرائی کہ کل عاشورہ کا دن ہے تم روزہ رکھنا اور اپنی اولاد کو کہنا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ مَوْظَعِیں اس کی تخریج ہے۔

ماہ رمضان سب سے افضل ہے :

حضرت عبد اللہ بن الیزید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے سنا کہ ان سے یوم عاشورہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کسی ایسے دن کا روزہ رکھا ہوا اور اس دن کے سوا دوسرے دنوں پر اس کی فضیلت طلب کرتے ہوں۔ کوئی ماہ رمضان کے مہینے سے افضل نہیں ہے۔

عبد اللہ بن موسیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے دن کے روزہ کی تلاش میں ہوں جسے دوسرے دن پر فضیلت ہو سوائے عاشورہ کے دن کے اور ماہ رمضان کے۔ بخاری و مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔

گذشتہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ :

حضرت ابی قحافة (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر گمان کرتا ہوں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہنادے۔ اس کی تخریج ترمذی نے کی ہے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا:

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صاحب لوالا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ضرور نویں اور عاشورہ کا روزہ رکھوں گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن کی یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا انھا اللہ (عزوجل) آئندہ سال نویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ پھر آئندہ سال ایسا ہوا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال فرمایا۔

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا یوم عاشورہ کو متعلق فرمان :

حکم بن اعرج کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے پاس میں اس وقت پہنچا جب وہ زمرم شریف سے اپنی چادر پیٹھے لگا کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ عاشورہ کے روزہ کے بارے میں فرمائیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم الحرام کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور نویں کا روزہ رکھو۔ کہا کہ کیا محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں اسے مسلم نے پیان کیا اور ابو داؤد نے دوسری اور تیسری کو۔

یہود کی مخالفت کرنا :

ایک روایت میں رزین نے حضرت عطاء سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ نویں اور دسویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔

چهار عمل کا عامل ہوتا :

حضرت خصہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ چار عمل ایسے ہیں جنہیں محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی ترک نہیں کیا۔ ۱۰ عاشورہ، عزاداری اور ہر ماہ کے تین روزے اور نجیر سے پہلے دور کعت، نسائی نے اسے بیان کیا۔

فضیلت والا روزہ :

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا ہے۔ اور فرائض بیٹھ گانے کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز صلوٰۃ اللیل ہے۔

افضل نماز اور افضل مہینہ :

ایک اور روایت میں مردی ہے کہ راوی نے کہا کہ دریافت کیا گیا کہ کون سی نماز فرائض کتبہ کے بعد سب سے افضل ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: صلواۃ اللیل۔ اور کون سارو زہ رمضان کے بعد افضل ہے؟ فرمایا اللہ کا مہینہ محرم۔ اس کی مسلم اور ابو داؤد نے تخریج کی۔ ترمذی اورنسائی نے پہلی روایت کی تخریج کی ہے۔

ایک ہوم کی توبہ کی مقبولیت :

حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ وہ کون سا مہینہ ہے جو رمضان کے بعد ہے جس میں آپ مجھے حکم دیں کہ میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں سنا کہ کسی نے اس کے متعلق پوچھا ہو۔ سوائے اس کے کہ میں نے سنا کہ ایک مرد نے رسول خدا ﷺ سے پوچھا کہ میں اس وقت حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اس نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! رمضان المبارک کے بعد آپ ﷺ کس مہینہ کا حکم فرماتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس میں ایک روز ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور پھر دوسری قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔

یہ احادیث ہیں جو صحاح سنت میں موجود ہیں اور جامع الاصول میں ذکر کی گئی ہیں۔ ازان بعد ہم ان احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں جو جامع کبیر میں مذکور ہیں جسے شیخ عارف بالله علی م تقی نے تالیف فرمایا اور اسے علامہ جلال الدین سیوطی نے ترتیب دے کر جامع الجوامع میں تحریر کیا۔ اگرچہ اس میں احادیث مذکورہ بھی دوسری سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہیں یہاں اسے دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ صحاح کی سندوں سے ساتھ یہاں ہو چکی ہیں۔ البتہ اگر دوسرے الفاظ کے ساتھ ذکر ہوتیں جو جامع الاصول میں نہیں ہیں تو وہ یہاں کردی جاتیں۔ ان کے علاوہ جو احادیث ہیں انھیں ہم یہاں کرتے ہیں۔

توبۃ النصوح کی تجدید کرنا :

حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی غیب داں ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے میانے کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا اور حضور ﷺ نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ یوم عاشورہ میں توبۃ النصوح کی تجدید کریں اور توبہ کی مقبولیت کی آرزو رکھیں۔ پھر جس شخص نے اس روز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی نکش ماگی توبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا۔ علامہ ترمذی نے اسے روایت کیا۔

ایک دن پہلے اور ایک ان بعد کا روزہ رکھنا :

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور نبی غیب داں ﷺ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھوا اور اس میں یہودی مخالفت کرو اور اس کے ایک روز پہلے اور ایک روز بعد کا بھی روزہ رکھو۔ امام احمد نے اسے روایت کیا۔ اور پھر حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مردی ہے کہ محبوب خدا ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو عاشورہ سے ایک روز پہلے اور ایک روز بعد روزہ رکھنے کا حکم دوں گا۔ نبیتی نے شعب الانیمان میں اس کی روایت کی۔

انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا روزہ رکھنا :

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مردی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو کیونکہ اس دن انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) روزہ رکھتے تھے تو تم بھی روزہ رکھو۔ اسے انہیں ابی شیبہ نے بیان کیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مردی ہے کہ محبوب خدا ﷺ نے فرمایا عاشورہ کا دن تم سے پہلے لوگوں کی عید کا دن ہے تم بھی اس روز روزہ رکھو۔ اسے بزرگ اور دیلمی نے روایت کیا۔

حوالہ عبادت کا ثواب :

حضرت انس بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ جس نے محرم الحرام کے تین دن کے روزے رکھے۔ جمعرات، جمعاء اور

ہفتہ تواں کے حق میں دو سال کی عبادت کا ثواب کھا جائے گا۔

یہود کی مخالفت اور نویں محرم کا روزہ رکھنا :

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔

اور انہی سے مروی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔

اور پھر انہی سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب اولاد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کروں گا اور نویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔

سال بھر کی روزہ کا اجر :

حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جس نے یوم الزینت کا روزہ رکھا اس نے سال بھر کے گزرے ہوئے روزوں کا اجر پالیا یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ۔

یوم عاشورہ کی حکمت عجیبیہ :

ابو شخ نے کتاب الشواب میں روایت کیا کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ حضرت نوح (علیہ السلام) عاشورہ کے روز اپنی کشتی سے جودی پہاڑ پر اترے اور روزہ رکھا، اور اپنے ہمراہ یوں کوشکانہ ادا کرنے کے لئے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی عاشورہ کے روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم (علیہ السلام) کی لفڑی کی توبہ کو قبول فرمایا اور حضرت یوسف (علیہ السلام) کے شہروں پر اور اسی روز بنی اسرائیل پر دریا پھاڑا گیا اور اسی روز حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ (علیہم السلام) نے تولد فرمایا۔

رذق میں فراغی ہونا :

حضرت ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ یوم عاشورہ جس نے اپنے گھروں پر رزق میں فراغی کی تو پھر تمام سال اس کے ہاں فراغی ہی رہے گی۔

مہینوں کا سردار محرم الحرام کا مہینہ ہے :

حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ:

حضرت آدم (علیہ السلام) سید الناس ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سید العرب ہیں۔

حضرت صہیب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سید الروم ہیں۔

حضرت سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سید الفارس ہیں۔

حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سید الحبش ہیں۔

اور اسی طرح پہاڑوں کا سردار طور پر یہاں ہے اور درختوں کا سردار سدرہ ہے اور مہینوں کا سردار محرم الحرام ہے اور دنوں کا سردار جمدة المبارک ہے اور کلام کا سردار قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا سردار سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ میں سردار آیۃ الکرسی ہے۔ خبردار آیۃ الکرسی میں پانچ کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں پنجکاں برکتیں ہیں۔ دیلی ہے اپنی مند الفردوس میں بیان کیا اور یہ ضعیف ہے۔

ملائکہ میں افضل کون؟

صاحب تصنیف (علیہ الرحمۃ) نے فرمایا کہ اس بارے میں دیگر احادیث میں وارد ہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ روایت جسے طبرانی نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کیا کہا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میں تمہیں اس امر سے خبردار نہ کروں کہ ملائکہ میں افضل حضرت جبرائیل (علیہ السلام) ہیں اور دنوں میں افضل یوم جمعہ اور مہینوں میں افضل ماہ رمضان اور راتوں میں افضل لیلۃ القدر اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے۔ مگر یہ کہ افضلیت اور سیادت میں بہت امتیاز ہے۔ خوب غور کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

دسویں بد سے اجتناب کرنا:

حضرت شیخ الدین بن حجر العسکری مفتی مکہ مکرمہ اور اپنے دور کے رئیس الاطهار و الحمد شیخ اپنی کتاب صواعق محقة میں قلم طراز ہیں کہ: خبردار! حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو عاشورہ کے دن جو مشکلات کا سامنا ہوا حقیقت میں یہ شہادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مراتب کو بلندی اور منزلت کو وسعت ملتی ہے اور اہل بیت اطهار کے درجات کی بلندی مقصود تھی لہذا جو بھی اس دن وقوع پذیر ہونے والے مصائب و آلام کا ذکر کرے تو اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ حکم الہی کو بجالائے کے لئے انا للہ وانا الیہ راجعون کی حلاوت میں مشغول ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ثواب مرتب فرمایا ہے اس کا سزاوار بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: او لئک علیہم صلوات من ربہم و رحمة اس روز کی اور طرف الفتاویٰ کر کرے سوائے اس کے یا اس کی مثل بڑی بڑی نیکیاں مثلاً روزہ۔ خبردار، خبردار اروافض کی بدعاں میں مشغول نہ ہو جانا مثلاً گریہ وزاری، ماتم و نوح وغیرہ کیونکہ یہ بات مسلمانوں کے اخلاق سے بہت دور ہے ورنہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً محبوب خدا (علیہ السلام) کے انتقال شریف کا روز اس سے زیادہ غم کا سزاوار ہوتا۔ متصب خارجیوں کی بدعاں سے اجتناب کرو جو اہل بیت اطهار کی بھوکرتے ہیں۔ جملاء کی بدعاں سے اجتناب کرو جو فاسد کو فاسد سے، بدعت کو بدعت سے، برائی کو برائی سے تقابل کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی مسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ عید مناتے ہیں، زینت کی نمائش کرتے ہیں۔ چیزیں خطا بسرمه اور نئی نئی پوشک اور فضول خرچی خلاف عادت کھانے پکانے وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی ابیان سنت ہے۔ اور امور عاریہ میں سے ہیں حالانکہ ان تمام امور کا ترک کرنا ہی سست نبوی ہے۔ اس لیے نہ ہی اس کے متعلق معتبر روایات ملتی ہیں اور نہ ہی اس کی طرف رجوع کیا جاسکے۔

بعض امامین سے اور فقہاء کرام سے حقیقی طور پر یوم عاشورہ میں سرمه لگانے، کچھ بھی لپکانے، نئی پوشک پہننے اور خوشی کا اظہار کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق نہ ترسول خدا (علیہ السلام) سے کوئی روایت ملتی ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا عمل ہے اور نہ ہی آئمہ اسلمین سے کوئی بہوت نہیں ملتا ہے اور نہ آئمہ ارجعاء ایضاً علاوہ ازیں کسی اور نے اسے مستحب قرار دیا اور نہ ہی کسی قابل اعتماد کتب احادیث میں کوئی روایت ہے۔ نہ صحیح نہ ضعیف اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عاشورہ کے روز سرمه لگایا تو اس سال آنکھیں نہ دھیں گی اور جس نے غسل کیا وہ پورا سال بیمار نہ ہوگا اور جس نے اپنی اولاد میں رزق کی فراغی کی اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں فراغی فرمادے گا اور اسی قسم کی دیگر باتیں اور یہ کہ اس روز کی نماز افضلیت کی حامل ہے اور یہ کہ اس روز حضرت آدم (علیہ السلام) کی توبہ قبول ہوئی۔ جو دوی پہاڑ پر کشتی قائم ہوئی۔ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا آگ سے خلاصی پانہ حضرت اسٹیل (علیہ السلام) کے زنج کے وقت دنبہ کا فدیہ کے طور پر آنا اور حضرت یعقوب (علیہ السلام) کے پاس حضرت یوسف (علیہ السلام) کا والپیں آتائی سب موضوع ہیں مساوا اولاد پر فراغی رزق والی حدیث کے۔ لیکن اس کی سند میں کلام ہے لہذا خارجیوں ناصحیوں نے اپنی جہالت کے بوجب اس روز کو خوشی کا روز تصور کر لیا اور فضیوں نے ماتم کا روز حالانکہ یہ دونوں خطا کرنے والے اور سنت کی خلافت کرنے والے ہیں۔ ان سب کے متعلق چند اہل حدیث نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔

بلانک حاکم نے تصریح کی ہے کہ اس دن سرمه لگانا بدعت ہے۔ دوسری روایت میں جو یہ ہے کہ اس روز جس نے سرمه لگایا بھی بھی اس کی آنکھیں نہ دھیں گی اس کے لئے یہ بھی کہا کہ مکر ہے۔ ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں حاکم کی سند سے اسی مقام پر بیان کیا ہے اور بعض حفاظات نے دوسری اسناد سے بھی نقل کیا ہے۔ مجید الدین بن بغوی نے حاکم سے نقل کیا کہ روزہ کے ساتھ اور حدیث جو عاشورہ کی فضیلت نماز، اتفاق، خطا، باتیں، تیل، سرمه، کھانا پکانے وغیرہ کی فضیلت میں منقول ہیں یہ تمام کی تمام موضوع اور سراسر بہتان ہیں۔ اسی طرح ابن قیم نے تصریح کرتے ہوئے کہا کہ سرمه لگانے، تیل ملنے اور خوشبو لگانے کی حدیث یوم عاشورہ کے لیے جھوٹوں کی من گھڑت ہے۔ یہ کلام اس شخص کے لئے ہے جو بروز عاشورہ سرمه لگانا اختیار کرے اور وہ جو گزر رکھے اس دن رزق میں فراغی کرے اس کی اصل ہے جیسا کہ حافظ الاسلام زین عراقی نے اماليہ میں یہی کی سند سے بیان کیا ہے کہ حضور پر نو (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ اپنی اولاد میں رزق کی فراغی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پورا سال وسعت فرمائے گا۔ ازان بعد کہا کہ یہ حدیث اپنی سند میں لیتی ہے لیکن ابن حبان کی رائے پر حسن ہے۔ اگلی دوسری سند ہے جس کو حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر نے صحیح کہا ہے اس میں زیادات مکر ہیں۔ اور یہی کا ظاہر کلام یہ ہے کہ حدیث توسع ابن حبان کی رائے کے علاوہ بھی حسن ہے کیونکہ انہوں نے مختلف اسناد کے ساتھ جماعت صحابہ سے مرفوع اور ایت کی ہے۔ پھر کہا کہ یہ سند میں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن جب انہیں آپس میں ملایا جائے تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

ابن تیمیہ کا انکار کر توسع کی کوئی روایت حضور (علیہ السلام) سے روایت نہیں ہے۔ یہ وہم ہے جیسا کہ تم ابھی جان چکے ہو۔ حضرت امام احمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے کہ صحیح نہیں ہے یعنی صحیح لذمۃ نہ ہونے سے اس کی لفی نہیں ہوتی کہ وہ حسن بغیرہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ حسن بغیرہ بھی علم حدیث میں قابل جست ہوئی ہے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ اُنہیں۔

ائمہ کا سرمه لگانا:

حضرت شیخ محمد سقاوی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی کتاب مقاصد حسنة میں یہ حدیث ہے کہ جس نے یوم عاشورہ احمد کا سرمه لگایا تو اس کی آنکھیں بھی نہ

وہیں گی۔ اسے حاکم اور نبیتی نے شعب الایمان کی تجویز شہ میں روایت کیا اور دیلیمی نے حضرت جبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی حدیث کو ضحاہ سے انہوں نے ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مرفوعار روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ یہ منکر ہی نہیں بلکہ موضوع ہے۔ اسے اسی وجہ سے انہیں جو زی میں موضوعات میں لائے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی حدیث اس لیے ضعیف ہے اس میں احمد بن منصور شونیزی ہے گویا یہ حدیث مذکول علیہ ہے۔ ائمہ اور یہ حدیث کہ جس نے یوم عاشورہ میں اپنے گھروالوں پر رزق کی فراغی کی اللہ تعالیٰ کی اس پر تمام سال فراغی فرمائے گا۔ اسے طبرانی، اور نبیتی نے شعب الایمان اور فضائل اوقات میں روایت کیا ہے اور ابو شخ نے حضرت ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے اور صرف پہلی دونوں احادیث حضرت ابو سعید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے اور صرف دوسرا شعب میں حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کیا ہے اور کہا کہ ان سب کی اسناد ضعیف ہیں لیکن جب سب کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ میں ملائیں تو "وقت" کا فائدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ عراقی نے اپنی کتاب امامی میں رقم کیا کہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی حدیث کی اسناد میں سے بعض کو ابن ناصر حافظ نے صحیح کہا ہے اور انہیں جو زی میں موضوعات میں اس حدیث کو سلیمان بن ابی عبد اللہ جو حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں اور کہا کہ سلیمان مجہول ہے۔ حالانکہ سلیمان کو ابن حبان نے ثقہ لوگوں میں شمار کیا ہے۔ اور یہ حدیث ان کی رائے میں حسن ہے اور اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ جو حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مسلم کی شرط کے موافق مردی ہے اس کی تحریک عبد البر نے استیاع میں برداشت ابو زبیر از جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ہے اور یہ سب سے زیاد صحیح ہے اور اسے انہوں نے اور دارقطنی نے افراد میں جید سند کے ساتھ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے موقف حلیہ اور نبیتی نے شعب میں محمد بن منذر کی سند سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر مشائخ نے بکثرت مواخذے کئے ہیں لیکن ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اور اعتماد بن جوڑی نے موضوعات میں عقیلی کے قول کے بعد ہمیں ابن شداح راوی حدیث ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بارے میں ہے کہ یہ مجہول ہے تھا کہ اس کا ذکر ابن حبان نے ثقہات اور ضعفاء میں کیا ہے۔ ائمہ۔

چار دروازوں والا قبہ :

شیخ امام حافظ علامہ عالم مدینہ منورہ اپنے زمانہ میں اشیخ علی بن محمد بن عراقی کی کتاب تنزیہ الشریعہ فی احادیث الموضوعہ میں حدیث ہے کہ جس نے محرم کے پہلے ندوں کے روزے رکھنے کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہوا میں ایک قبہ بنائے گا۔ جس کی پیمائش میں دو میل ہو گی اور اس کے چار دروازوںے ہوں گے۔ اسے ابو غیم نے حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کیا ہے چونکہ اس سند میں موی طویل ہے۔ یہ ایک مصیبت تھا۔

دس هزار فرشتوں کا ثواب دیا جاتا :

اور یہ حدیث کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے سانہ سال کی عبادت جس میں نماز ہے تحریر فرمائے گا اور جس نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھا اسے دس ہزار حج و عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساتوں آسمانوں کا ثواب تحریر فرمائے گا۔

تہیامت کا ہاتھ ہوتا :

اور یہ بھی حدیث کہ جس نے یوم عاشورہ کی بھوکے کو کھانا کھلایا اس نے گویا میت محمد یہ کے تمام فقر اک کو کھانا کھلایا اور انہیں سیر کر دیا۔ اور جس نے یہی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر کے ہر ہر بال کے عوض جنت میں بلند درجہ ملے گا۔

تخلیق جبرا ائیل (علیہ السلام) :

اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ میں جبرا ائیل (علیہ السلام) کی تخلیق فرمائی اور یوم عاشورہ ہی میں ملائکہ کی تخلیق فرمائی اور یوم عاشورہ ہی میں آدم (علیہ السلام) کی تخلیق فرمائی اور یوم عاشورہ ہی میں ابراہیم (علیہ السلام) کی تخلیق فرمائی اور اسی روز آپ کو آگ سے نجات ملی۔ اسی روز اسلیعیل (علیہ السلام) کا فدیہ آیا۔ اور اسی روز فرعون غرق ہوا اور اسی روز اور لیس (علیہ السلام) کو اٹھایا اور اسی روز آدم (علیہ السلام) کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوی کیا اور اسی روز قیامت قائم ہو گی۔ یہ سب موضوع ہیں اسے ابن جوڑی نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے زکر کیا ہے۔ چونکہ اس سند میں حبیب ابن حبیب جو فتنہ پرداز تھا۔ یہ حدیث کہ یہیک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا وہ عاشورہ کا روز ہے اور وہ محروم کی دسویں ہے لہذا اس دن روزہ رکھو اور اپنی اولاد پر رزق کی فراغی کرو کیونکہ جس نے اپنی اولاد پر اپنے ماں میں سے یوم عاشورہ کو فراغی کی تو اللہ تعالیٰ کی اس پر پورا سال فراغی کرے گا۔ روزہ رکھو کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم (علیہ السلام) کی لغزش کی توبہ قبول کی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت اور لیس (علیہ السلام) کو بلند مقام پر فائز کیا گیا اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو آگ سے نجات دی۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر تورات کا نزول ہوا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت اسلیعیل (علیہ السلام) کا بوقت زنگ فدیہ اتنا را۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو جیل خانہ سے نکلا اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب (علیہ السلام) سے مصائب کو دفع فرمایا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو مچھلی کے پیٹ سے نکلا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے دریا چھاڑا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضور مکمل (علیہ السلام) کے سب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گئے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دریا عبور کیا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یوسف (علیہ السلام) کی قوم پر توبہ اتنا ری۔ پس جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا چالیس سال کا کفارہ ہو گا۔ اور پہلا دن ہے کہ کر اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کی تخلیق فرمائی اور یہ پہلا دن ہے کہ آسمان سے باش اتنا ری۔ پس جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا گویا تماز زمان کا روزہ رکھا اور یہ انبیاء اور موسیٰ (علیہ السلام) کا روزہ ہے اور جس نے عاشورہ کی رات کوشب بیداری کی گویا اس نے سات آسمان والوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور جس نے چار رکعت نماز ادا کی جس کی ہر رکعت میں الحمد ایک بار اور قل ہو اللہ احد پچھا س بار پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ملائی میں ایک ہزار نورانی منبر بنائے گا اور جس نے ایک گھونٹ پانی پلایا گویا کہ اس نے ایک آن بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جس نے اہلی بیت کے مسکینوں کا پیٹ عاشورہ کے دن بھرا تو وہ پلصراط پر جمکتی بجلی کی طرح گزر جائیگا اور جس نے کوئی چیز خیرات کی تو تو یا اس نے کبھی بھی کسی سائل کو واپس لے لانا یا اور جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا تو سوائے مرض موت کے کبھی بیمار نہ ہو گا اور جس نے اس روز سرمد لگایا اس کی آنکھیں پورا سال دکھنے نہ آ سکیں گی۔ اور جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا اس نے تمام اولاد آدم کے مرضیوں کی عیادت کی۔ ان سب کو ابن جوڑی نے موضوعات میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ بعد والوں نے اسے وضع کر کے ان اسناد کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ ائمہ۔

جبرائیل (علیہ السلام) کا شہادت کی خبر دینا:

حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل (علیہ السلام) کے خبردی کہ حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ ابن سعد نے اس کی روایت کی۔

شہادت گاہ کی مٹی لانا:

حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرے بعد طرف کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور یہ مٹی میرے پاس لائے ہیں اور مجھے خبردی گئی ہے کہ یہ ان کے مفن کی جگہ ہے۔ ابن سعد اور طبرانی نے کہیر میں روایت کیا۔

سرخ رنگ کی مٹی لانا:

حضرت ام افضل بنت حارث (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا؛ "عفتریب میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی اور ان کے دفن ہونے کی جگہ کی سرخ رنگ کی مٹی میرے پاس لائی گئی۔" ابو داؤد اور حاکم نے محدث ک میں اسے روایت کیا۔

جبرائیل (علیہ السلام) کا مقتل گاہ کی مٹی لانا:

حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور نبی پاک صاحبِ لولاک (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ: "جبرائیل (علیہ السلام) نے مجھے خبردی ہے کہ میرا بیٹا فرات کی سر زمین میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل (علیہ السلام) سے کہا ان کے مقتل کے مٹی لا کر دکھاؤ۔ چیز وہ وہاں کی مٹی لائے ہیں۔"

ابن سعد نے اسے روایت کیا۔

"میرے اس بیٹے سے مراد حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں جو عراق کی سر زمین میں شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ پس جو کوئی اس وقت زندہ ہو موجود ہواں کی امداد کرے۔"

بغوی، ابن اسکن، ماوردی، ابن منده اور ابن عساکر نے حضرت انس ابن حارث بن مده (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے اسے روایت کیا ہے۔ بغوی نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ اس کے سوا کسی اور نے روایت کیا ہو۔ اور ابن اسکن نے کہا کہ انس کی اس کے سوا اور کوئی روایت سوانع سند کے نہ تو کوئی ہے اور نہ ہی اس کا علم ہے۔

جبرائیل (علیہ السلام) نے مجھے خبردی کہ میرا فرزند حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شہید کیا جائے گا اور یہ اس زمین کی مٹی ہے۔ خلیلی نے ارشاد میں اسے نقل کیا ہے اور حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ جبرائیل (علیہ السلام) ہمارے ساتھ گھر میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں محظوظ رکھتے ہیں؟ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا یقیناً پھر جبرائیل نے عرض کیا۔ آپ کی امت اس سر زمین میں انھیں شہید کر دے گی جسے کربلا کہتے ہیں۔ پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے لا کر دکھائی۔ طبرانی نے کہیر میں اسے بیان کیا۔

قائل حسین پر غضب الہی (عزوجل) :

حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ جبرائیل نے مجھے خبردی کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا اور جوان کا قاتل ہو گا اس پر شدید غضب الہی ہو گا۔ ابن عساکرنے اسے روایت کیا۔

حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے مروی ہے کہ جبرائیل (علیہ السلام) نے اس جگہ کی مٹی لا کر دکھائی جہاں امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شہید ہوں گے۔ چنانچہ اس شخص پر جوان کا خون بھائے۔

محبوب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ملال ہونا:

"اے عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) تم ہے اس ذات کی جس کے قبھہ قدرت میں میری جان ہے مجھے انتہائی ملال ہے کہ میری امت میں کون ایسا ہو گا جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ اسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔

حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے مروی ہے کہ جبرائیل میرے پاس خبر لائے کہ میرے بیٹے کو میری امت قتل کرے گی۔ میں نے کہا کہ وہاں کی مٹی لا کر دکھائی۔ طبرانی نے کہا میں اسے روایت کیا۔

حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بدله میں ستر ہزار اور ستر ہزار قاتل ہوتا ہے :
حضرت زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دھی فرمائی کہ میں نے مجھی بن زکریا کے بدله ستر ہزار قاتل کرائے اور آپ کے بیٹے کے بدله ستر ہزار اور ستر ہزار قاتل کراؤں گا۔ حاکم نے اسے متدرک میں روایت کیا۔

مٹی کا سونگھمنا اور آنکھوں سے آنسو بھنا :
حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ میرے پاس پہلے سے جبرائیل کھڑے تھے مجھ سے کہا کہ فرات کے کنارے حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شہید کیے جائیں گے اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کو وہاں کی مٹی سوچھا دوں۔ میں نے کہا ہاں! تو جبرائیل نے اپنا ہاتھ لے بھا کیا اور واکیں مشت خاک لا کر مجھے دے دی۔ یہ خاک دیکھ کر میری آنکھیں قابو سے باہر ہو گئیں اور آنسو بہنے لگے۔ اس حدیث کو احمد، ابو یعلی، ابن سعد اور طبرانی نے کہرا میں۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ابو امام اور انس اور عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے روایت کیا۔ اور ان عساکرنے ام سلمہ، ام افضل بنت حارث زوجہ حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے اور انہیں سعد نے حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے اور ابو یعلی زینب ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کہ گویا میں اس چستکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہلبیت کے خون میں منہڈاں رہا ہے۔

حیثیت زدہ خبر لانا :
امن عساکرنے حضرت حسین ابن علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت کیا کہ عائشہ کس قدر حیرانی میں ڈالنے والی خبر ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا قاتل کیا جائے گا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے قاتل ہونے کی جگہ کی مٹی لا کر دکھاؤں۔ پھر فرشتہ نے ہاتھ اٹھایا اور سرخ رنگ کی مٹی لا کر دکھائی طبرانی نے کہرا میں اسے روایت کیا ہے۔

قاتل حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر عذاب شدید ہوگا :
حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ یزید! اللہ تعالیٰ اس یزید قاتل ملعون میں برکت نہ کرے؟ سنو! میرے پیارے محبوب بیٹے حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خبر شہادت کے ساتھ ان کے قاتل ہونے کی جگہ کی خاک میرے سامنے لائی گئی۔ میں نے ان کے قاتل کو دیکھا۔ سنو! جن لوگوں کے سامنے انہیں شہید کیا جائے گا وہ ان کی مدد نہ کریں گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب مسلط کرے گا۔ ان عساکرنے ابین عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت کیا۔

حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ۲۰ ہجری کے شروع میں شہید کئے جائیں گے۔ اسے طبرانی نے کہرا میں اور خطیب وابن عساکرنے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا اور اس میں سعد ابن طریف نے روایت کیا جو متودک ہے اور انہیں حبان نے کہا کہ یہ شخص احادیث گھڑا کرتا تھا اور انہیں جوزی نے اسے موضوعات میں مرقوم کیا ہے۔

سن کھولت کی آمد :
حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اس وقت شہید کئے جائیں گے جبکہ ان پر سن کھولت آنے والا ہوگا۔ اسے طبرانی نے کہرا میں بیان کیا۔ اس میں بھی سعد بن طریف نے روایت کیا ہے۔

حضور ﷺ کا مقتول حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے آنا :
جامع الاصول میں ترمذی کی حدیث سلمی سے مروی ہے جو ایک انصاری عورت تھی اس نے کہا کہ حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رورتی تھیں۔ میں نے کہا کیوں روتی ہو؟ کہا میں نے ابھی ابھی حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ کے سر اور داڑھی کے بال گرد آؤ دتھے اور آپ بھی روتھے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ !! یہ کیا حال ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا میں ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آرہا ہوں اور اس میں بخاری و ترمذی کی حدیث برداشت حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ہے۔

امام عالی مقام کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا جانا :

حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا سر مبارک لا یا گیا اور اس نے سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور اس کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم بخدا یہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ بالکل مشابہ تھے اور اس وقت وہ کا خساب لگا ہوا تھا۔

ابن زیاد کا امام حسین (علیہ السلام) کے حسن کی تعریف کرنا :

مروی ہے کہ حضرت انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا سر مبارک لا یا گیا تو وہ چھڑی سے آپ کی ناک میں چھیڑنے لگا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین و جیل کسی کو نہ دیکھا، میں نے کہا، سنو! بلا ٹک و شہر یہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ پہلی روایت کو بخاری نے اور دوسری روایت کو ترمذی نے تحریک کیا ہے۔ اور اس میں عمارہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر لا یا گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے گھن کی طرف جاؤں، تو میں پہنچ گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ آیا! وہ آیا! اچاک ایک اثر دہاروں کے مابین گھس گیا اور عبید اللہ بن زیاد کے ٹھنڈوں میں گھس گیا، کچھ دریہ نہ سہرا رہا پھر نکل کر چلا گیا حتیٰ کہ وہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے وہ آیا وہ آیا!! اس اثر دہار نے تین دفعہ ایسا کیا۔ اسے ترمذی اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الکفار میں نقل کیا اور یہی نے ولائل میں نقل کیا۔

ایک بوقل میں خون :

حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دو پھر کے وقت دیکھا کہ پر انگدہ و غبار آلود ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوقل ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) امیرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا ہے، فرمایا ہے، حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں اسے فلاں دن سے جمع کر رہا ہوں۔ جب میں نے شمار کیا تو وہی دن تھا جس دن وہ شہید کئے گئے تھے۔

جنت کی آہ و ذاری :

ابو نعیم نے ولائل میں حضرت ام سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے نقل کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ جنت حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر روتے اور نوحہ کرتے تھے۔

جنت کا اشعار میں نوحہ خوانی کرنا :

ٹلب نے امالی میں اب حباب کلبی سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کر بلایا آیا۔ میں نے دریافت کیا یہاں کے کون لوگ شریف ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ جنت کا نوحہ سن کرتے ہو؟ اس نے کہا تم یہاں جس سے بھی ملوگ وہ تھیں یہی بتائے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو میں نے کہا تاہم نے کیا سنا ہے؟ اس نے کہا میں نے جنت کو یہ اشعار کہتے ہوئے سنا ہے :

نبی کریم نے ان کی پیشانی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ان کے رخساروں سے روشنی چکتی ہے
ان کے والدین قریش کے بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کے نناناں سب سے بہتر تھے

یزید کا رخنه ڈالنا :

ابو یعلی نے سید ضعیف کے ساتھ ابو عبیدہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت کا معاملہ حق و انصاف پر قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا ایک آدمی بنو امیہ میں سے ہو گے جسے یزید کہا جائے گا وہ رخنه ڈالے گا۔

سنت کو بدلنے والا شخص :

رویانی نے اپنی سند میں حضرت ابو درداء (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کیا کہ میں نے سنا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدلتے گا وہ بنی امیہ میں سے ایک شخص ہو گا جس کا نام یزید ہو گا۔

جیس کوڑوں کی سزا :

تو انل بن ابو الفرات نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس تھا کہ ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین یزید بن معاویہ انہوں نے فرمایا تو اسے "امیر المؤمنین" کہتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ اسے میں کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اُختی۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جب ۱۲ھ میں حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حق میں حضرت امام حسن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خلافت سے مستبردار ہو گئے۔ تب سے اس سال کا نام عام الجماعت پڑ گیا کیونکہ اس سال میں ایک خلیفہ پر امت نے اجماع کیا۔ اور اسی سال حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا۔ اور ۳۳ھ میں "رے" کو فتح کیا اور اس کے علاوہ جھان کے کچھ شہروں کو اور سوڑان کے اردوگرد کے علاقوں کو بھی فتح کیا اور اسی سال حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے امیہ کے بیٹے زیاد کو نائب بنایا۔ یہ پہلا قضیہ ہے کہ اسلام میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کی تبدیلی عمل میں آئی۔ اسے طلبی وغیرہ نے بھی روایت کیا۔

یزید کی خلافت کے لیے عہد لیا جانا :

نہیں میں حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اہل شام کو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے لیے بلا یا تو سب نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے جو اپنے بیٹے کی خلافت کے لئے عہد لیا گیا اور یہ کاپنی صحابہ کی حالت میں اپنا ولی عہد بنایا۔ پھر یہ کہ مروان کو مدینہ میں خط بھیجا کر وہاں اس پر بیعت لے۔ چنانچہ مروان نے خطبہ دیا کہ امیر المؤمنین کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنے بیٹے یزید کو سنت ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے طریقہ پر خلیفہ بنایا جائے اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے کھڑے ہو کر فرمایا، نہیں! قیصر و کسری کی سنت پر ایکوں کہ حضرت ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے نہ تو اپنی اولاد کو خلیفہ بنایا اور نہ کسی گھروالے کو۔

حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا بیعت کے لیے بلوایا جانا :

حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے حجج کیا اور اپنے بیٹے کے لیے بیعت چاہی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو بلا یا۔ وہ تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان سے کہا اے ابن عمر! تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کیا یہ بات تحسیں پسند نہیں کہ میں رات کو ہی سو جاؤں اور تمہارے اوپر اس وقت کوئی امیر نہ ہو۔ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم مسلمانوں کی لاٹھی کوکٹوے کوکٹوے کر دو یا ان میں فساد برپا کر دو۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں اور ان کے بیٹے بھی تھے اور باقی اولاد بھی تھی اور تمہارا بیٹا ان کے بیٹوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی اولاد کے لیے یہ تجویز نہ کیا جو تم اپنی اولاد کے لیے تجویز کر رہے ہو۔ لیکن ان خلفاء نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ وہ جسے بہتر سمجھیں خلیفہ مقرر کر لیں اور تم مجھے اس سے خائف کرتے ہو کہ میں مسلمانوں کی لاٹھی کوکٹوے نہ کروں حالانکہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں جب تمام مسلمان کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو میں بھی ہر طرح سے ان کے ساتھ ہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا خدا تم پر رحمت کرے ازاں بعد حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) واپس آگئے۔ پھر حضرت ابن ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو بلا یا۔ وہ آئے تو ان سے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے دوران گفتگو کہا پہلیک تم نے خدا کی قسم یہ چاہا ہے کہ تم نے تمہارے بیٹے کے معاملہ میں اللہ کی طرف سے وکیل ہنا دیا ہے؟ قسم بخدا ایسا نہ کہجئے۔ قسم بخدا اہم اس معاملہ کو مسلمانوں کے سامنے مجلس مشاورت میں صاف کریں گے، ہم نے تمہاری نیت کو بجاہ پ لیا ہے پھر وہ لڑ جھوک کر چلے گئے۔ ازاں بعد حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا، الہی! مجھے اس شر سے جس طرح تو چاہے بچا۔ پھر کہا اے شخص نہ ہر جا۔ اہل شام کے ہاں نہ جانا کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ میرے لئے تم پر سبقت نہ کر جائیں۔ حتیٰ کہ میں سب کو یہ خبر سنادوں کہ تم نے بیعت کر لی ہے اس کے بعد جدول میں آئے وہی کرنا۔

حضرت ابن زیبر کو بلوایا جانا :

از ازاں بعد حضرت زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو بلا یا اور ان سے کہا اے ابن زیبر! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم چالاک اور مژدی ہو کہ جب کبھی بھی ایک بل سے لکھتے ہو تو جھٹ دوسراے بل میں داخل ہو جاتے ہو۔ لیکن ہم ان دونوں شخصوں سے ملے ہو اور ان کے تھنوں میں پھونک ماری ہے اور ان دونوں کو ان کی رائے کے خلاف بہکا دیا ہے۔ حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جواب دیا اگر تم امیر ہو تو امارت سے علیحدہ ہو جاؤ اور پھر اپنے بیٹے کو لاوا۔ پھر ہم اس سے بیعت کریں گے۔ تم غور نہیں کرتے جب ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کی بھی بیعت کر لی تو ہم کس کس کا حکم مانیں گے۔ تم دونوں کی بیعت ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ازاں بعد وہ بھی چلے گئے۔

حضرت امیر معاویہ کا منبر پر چڑھے کر خطبہ پڑھنا :

از ازاں بعد حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) منبر پر چڑھے۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد کہا میں نے لوگوں کو شرمناک باتیں کرتے پایا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور ابن ابو بکر اور ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حالانکہ ان سب نے نہ اور مانا اور اس کی بیعت کی ہے۔ اس پر شامیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ سب کے سامنے آ کر بیعت نہ کریں ورنہ ہم انھیں ہلاک کر دیں گے۔ امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا، سبحان اللہ! لوگ قریش کے ساتھ تھی جلدی برائی پر آمادہ ہیں۔ آج کے دن کے بعد کبھی تم سے میں ایسی باتیں نہ سنوں۔ پھر نیچے اتر آئے اور اس کے بعد لوگ چرچا کرنے لگے کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن ابو بکر، حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے بیعت کر لی ہے حالانکہ یہ شخص کہتے رہے کہ تم بخدا ہم نے بیعت نہیں کی ہے پھر لوگ کہتے ہاں نہیں کی۔ ازاں بعد حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شام کو واپس لوٹ آئے۔

فساد بروپا کرنے والے افراد :

حضرت حسن بصری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے لوگوں کے درمیان فساد برپا کیا۔ ان میں ایک تو عمر و بن العاص ہیں کہ نیزوں پر

قرآن انہانے کا امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اشارہ کیا، سوانحائے گئے اور ان الغراء نے کہا کہ پھر خارجیوں کو حکم دیا کہ یہ حکیم قیامت تک باقی رہے گی۔

وسرے مغیرہ بن شعبہ ہیں، کیونکہ یہ کوفہ میں حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گورنر تھے۔ انہوں نے انہیں خط لکھا کہ جب تم اسے پڑھو تو جلد از جلد معزول ہو کر چلے آؤ لیکن مغیرہ نے دیر کر دی، جب وہ حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ مغیرہ نے کہا ایک محالہ پیش آگیا تھا اسے نہیں کی کوشش کر رہا تھا۔ پوچھا وہ کون سامع الہ تھا، کہا تمہارے بعد یزید کی بیعت اکیا تھا نے اس کو پورا کر لیا ہے؟ کہا ہاں! حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا تم اپنی جگہ پر بحال ہو کر چلے جاؤ۔ وہاں سے جب مغیرہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو پوچھا کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ میں نے معاویہ کے پاؤں چڑے کی رکاب میں ایسے رکھ دیے ہیں کہ قیامت تک اسی میں رہیں گے۔

یزید کے لئے موت کی آذو کرونا :

علامہ ابن سیرین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا کہ عمرو بن حرام قاصد بن کر حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس آیا اور ان سے کہ امت محمدیہ کے حق میں خدا سے ڈریے ان پر کے خلیفہ مقرر کر ہے ہو۔ جواب میں کہا میں نے تمہاری نصیحت سنی اور تو نے کہا میری یہ رائے ہے حالانکہ میرے بیٹے اور ان کے بیٹوں کے سوا کوئی باقی نہیں ہے اور میرا بیٹا زیادہ حق دار ہے۔

عطیہ بن قیس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خطبہ میں کہا اللہ العالمین اگر میں نے یزید کو اس کی قابلیت دیکھ کر ولی عہد کیا ہے تو اس کو تو اس پر پہنچا جو میری آرزو ہے اور تو اس کی مدوفر ما۔ اگر میں نے باپ کی محبت میں جو باپ کو اولاد سے ہوتی ہے ایسا کیا ہے اور وہ اس قابل نہیں تو اسے ولی عہد بننے سے پہلے ہی موت دے دے۔

شامیوں کا یزید کی بیعت کرونا :

یزید بد بخت شقی و سرکش ۵۲ھ یا ۶۲ھ میں تولد ہوا اور اس کے باپ نے اسے ولی عہد بنایا حالانکہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا وصال ہوا اور یہ واقعہ درج ۶۰ھ کا ہے تو شامیوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ پھر اہل مدینہ کی طرف قاصد بھیجا کر وہ اس کی بیعت لے تب حضرت امام حسین اور حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور اتوں رات جاپ کمک معظمه چلے گئے لیکن حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے تو اس کی بیعت کی اور نہ ہی اپنی طرف کسی کو بولا یا۔

عراق کی جانب روائی کا قصد کرونا :

لیکن حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کوئی نہیں نے حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے زمانہ میں ہی خطوط لکھے تھے اور خروج کی طرف بلار ہے تھے مگر آپ انکار کرتے رہے پھر جب یزید کی بیعت لی گئی تو یہ اس وقت تردد لاحق ہو گیا کبھی ارازہ اقتامت فرماتے اور کبھی ان کی جانب تشریف لے جانے کا عزم کرتے۔ حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے روائی کا مشورہ دیا اور حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا ایسا ادارہ نہ کرنا چاہیے اور حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے کہا آپ نہ جائیے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں کا مختار بنا تھا لیکن آپ نے آخرت کو پسند فرمایا چونکہ آپ حضور ﷺ کے مگر گوشہ ہیں اس لیے آپ کو کبھی دنیا نہیں ملے گی۔ ازاں بعد وہ گلمل کر رہے اور رخصت کر دیا۔

از اس بعد حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) فرمایا کرتے تھے کہ روائی کے بارے میں حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہم پر غالب آگئے قسم ہے مجھے اپنی عمر کی بیٹک انہوں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی سے عبرت دیکھی ہے اسی قسم کی گنتی حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابو سعید خدری اور ابو واقع للیثی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وغیرہ نے کی مگر آپ نے کسی کی بات نہ مانی اور عراق کی جانب روانہ ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے فرمایا قسم بخدا میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ شاید آپ اپنے بیٹوں، عورتوں اور بیٹیوں کے مابین شہید کر دیے جائیں گے جیسا کہ حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شہید کر دیئے گئے تھے مگر حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے قبول نہ فرمایا۔ اس پر حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) رونے لگے اور کہا آپ نے حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تمنا پوری کر دی۔ اور جب حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھا تو فرمایا اب تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ یہ حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تشریف لے جا رہے ہیں اور جا زتمہارے لیے چھوڑے جاتے ہیں اور یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے:-

اے طاڑ قنبر کشاوہ سبزہ زار تیرے لیے کیا ہے

تیرے لئے تمام میدان خالی ہے پس تو اب اٹھے پہنچ دے

اور اب جہاں چاہے تو دانہ پانی حاصل کر آج تیرا شکاری بیار ہے تھے مبارک ہو
 اہل عراق کا حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خدمت میں خطوط روانہ کرنا :
 ہل عراق نے حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس بہت سے قاصد اور خطوط بھیجے جس میں وہ آپ کو اپنی طرف بلاتے تھے۔ پھر آپ نے دس ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے الہمیت کی ایک جماعت کے ساتھ جس میں مرد، عورتیں اور بچے بھی تھے عراق کی طرف کوچ فرمایا اس وقت یزید نے گورز کوفہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ وہ آپ سے جنگ کرے۔ پس اس نے چار ہزار کا لشکر بھیجا۔ ان پر عمرو بن سعد بن وقاریں کو سردار بنا�ا۔ کوفہ والوں نے اپنی عادات کے مطابق آپ کو دھوکا دیا جیسا کہ آپ کے باپ کو دیا تھا اور آپ کی مدد نہیں۔ جب آپ کو دشمن نے گھیر لیا تو آپ نے ان پر اطاعت درجوب اور یزید کے پاس جانا سامنے رکھا۔ تاکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھیس تو ان لشکریوں نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ آپ کو شہید کروں۔ پس آپ شہید کر دیئے گئے اور آپ کا سر مبارک طشت میں رکھ کر ان زیاد کے سامنے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو آپ کے قاتل اور اس کے ساتھ ان زیاد اور یزید پر بھی۔ حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی شہادت کر بلائیں واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کا قصہ بہت طویل ہے۔ ول اس کے ذکر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انا اللہ و انا علیہ راجعون ۔

یوم عاشورہ کا مصادیب ذہ منظر :

حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ اہل بیت میں سے سولہ مرد شہید ہوئے اور جب حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شہید ہوئے تو سات روز دنیا نے واپسیا اور سورج کی روشنی دیواروں پر اسی تھی جیسے کسی کی رُگنی ہوئی سرخ چادر اور ستارے آپس میں گھرا تھے۔ اور آپ کی شہادت دس محرم الحرام کو ہوئی۔ اس دن سورج کو گھنن لگا۔ آپ کی شہادت کے چھ ماہ بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے اس دن سے ہمیشہ یہ سرخی دکھائی دیتی ہے اس سے پہلے وہ نظر نہ آتی تھی۔ روایت ہے کہ اس روز بیت المقدس کا جو قبر بھی الثاجاتا تو اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ ان کے لشکریوں کے تمام کپڑے جل کر راکھ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر میں اونٹ ذبح کیا تو اس کے گوشت میں آگ نظر آئی اور جب اسے پکایا تو وہ گوشت جل کر کڑوا ہو گیا۔ ایک آدمی نے حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک چمکتا ہوا ستارہ مارا تو وہ اسے اندر حاکر گیا۔ ل阡بی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن عمرو للہی سے راویوں نے کئی طرح روایت کیا ہے۔

دار الامارة کی طرف اشارہ کرنا :

کہا کہ میں نے اس محل کی جانب اشارہ کیا کوہہ کی دار الامارة کہ جس میں حضرت حسین بن علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے سر مبارک کو ایک تحال میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کا سر محترم بن عبید کے سامنے دیکھا پھر محترم کا سر مصعب بن زیبر کے سامنے دیکھا۔ پھر مصعب کا سر عبد الملک کے سامنے دیکھا۔ پھر عبد الملک سے میں نے یہ بات کہی تو اس نے بدھگونی لی اور دار الامارة کو چھوڑ دیا۔

سر اقدس یزید کے پاس آنا :

جب حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کے خاندان کے افراد شہید ہو گئے تو انہیں زیاد نے ان سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا تو وہ پہلے تو اس سے خوش ہوا لیکن جب مسلمان اس کے اس فعل سے ملامت کرنے لگے اور اسے بر اجائے لگے تو پھر وہ شرمند ہوا۔ مسلمانوں کو اس کا مبغوض جاننا حق بجانب تھا۔

جنگ حرہ کیا ہے ؟

۲۳۔ ہجری میں یزید کو خبر ملی کہ اہل مدینہ نے اس پر خروج کیا ہے اور اس کی بیعت توڑی ہے تو ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اور ان سے قتال کرنے کا حکم دیا۔ ازاں بعد کہ معظمہ پر چڑھائی کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے جنگ کریں۔ پس وہ لشکر آیا اور باب طیبه پر حرہ واقع ہوا۔ تم جانو کہ جنگ حرہ کیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے ذکر کی دل میں گنجائش نہیں اور نہ ہی کان اس کے سنتے کی طاقت رکھتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ حضرت حسن بصری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اسے بیان کیا ہے۔ پس فرمایا کہ قسم بخدا ان میں سے کوئی بھی نہ بچا اس میں صحابہ وغیرہ کی ایک جماعت شہید ہوئی اور مددیں لٹکیا اور کئی ہزار کنواری لڑکیوں سے زنا کیا گیا۔ انا اللہ و انا علیہ راجعون

الله اور فرشتوں کی لعنت کس پر ؟

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے الٰی مدینہ کو ہر اس کیا اللہ تعالیٰ اس پر خوف ڈال دے گا اور اس پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔

غسل ملاکہ کا فرمان :

مدینے کے رہنے والوں نے جوبیعت کو فتح کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان کیا ہے کہ عبد اللہ بن حظله غسل الملاکہ نے کہا کہ تم بخدا ہم بیزید پر خروج نہ کرتے یہاں تک کہ ہم ہر اس اتھے کے کہیں ہم پر آسمان سے پھرولوں کی بارش نہ ہو کیونکہ بعض لوگ تو امہات اولاد اور بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے لگے تھے اور شراب نوشی کرتے اور نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ ذہبی نے کہا کہ مدینہ والوں پر بیزید نے جو کرنا تھا کیا باوجود یہ شراب نوشی اور مکرات پر عمل کرتا تھا۔ جب اس نے لوگوں پر بختی کی اور بہت سے لوگوں نے اس پر خروج کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نہ دے۔

سردار لشکر کی ہلاکت :

از اس بعد لشکر حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے لڑائی کرنے کے لئے مظہر کی جانب روانہ ہوا تو لشکر کا امیر ہلاک ہو گیا تو دوسرا امیر اس کی جگہ بنا دیا گیا۔ اس نے کہ میں گھس کر حضرت ابن زیبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا محاصرہ کر لیا اور لڑائی شروع کر کے مخفیق کے ذریعہ پھر پھینک کر ہلاک کر دیا۔

خلاف کعبہ کا جل جاتا :

یہ واقعہ ۶۲ھ کا صفر کے مہینہ کا ہے اور ان کی آگ کے شعلوں سے خانہ کعبہ کے خلاف اور اس کی چھتیں جل گئیں اور اس میں ہے کہ دونوں سینگ جو خانہ کعبہ کی چھت میں آؤں یہاں تھے جل گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سن کے نصف ربع الاول میں بیزید کو ہلاک کیا اور اس کی ہلاکت کی اطلاع مل گئی۔